

اہم ہدایات:

درخواست فارم برائے تمام پروگرام: تمام پروگراموں کے لیے صرف آن لائن درخواستیں ہی قبول کی جائیں گی۔

داخلہ امتحان کی بنیاد پر داخلے (فارم داخل کرنے کی آخری تاریخ: 31 مئی 2016):

پی ایچ ڈی پروگرام: انگریزی؛ ہندی؛ مطالعات ترجمہ؛ عربی؛ فارسی؛ مطالعات نسوان؛ نظم و نسق عامہ؛ سماجی کام؛ اسلامیات؛ تعلیم؛ انتظامیہ؛ ترسیل عامہ و صحافت؛ کمپیوٹر سائنس؛ سماجی اخراجیت و شمولیتی پالیسی؛ ریاضی؛ حیوانیات۔

ایم فل پروگرام: اردو؛ انگریزی؛ ہندی؛ مطالعات ترجمہ؛ عربی؛ فارسی؛ مطالعات نسوان؛ نظم و نسق عامہ؛ سیاسیات؛ اسلامیات؛ تعلیم؛ انتظامیہ؛ سماجی اخراجیت و شمولیتی پالیسی۔

پوسٹ گریجویٹ پروگرام: صحافت و ترسیل عامہ؛ ایم بی اے؛ ایم سی اے؛ ایم ٹیک [کمپیوٹر سائنس] اور ایم ایڈ

انڈر گریجویٹ پروگرام: بی ایڈ اور بی ٹیک [کمپیوٹر سائنس]۔

پیشہ ورانہ ڈپلوما؛ ڈپلوما بلٹنٹری ایجوکیشن [ڈی ایل ایڈ]؛ سیول انجینئرنگ ڈپلوما؛ کمپیوٹر سائنس انجینئرنگ ڈپلوما؛ الیکٹرانکس اینڈ کمیونیکیشن انجینئرنگ ڈپلوما؛ اور انفارمیشن ٹکنالوجی ڈپلوما۔

میرٹ کی بنیاد پر داخلے (فارم داخل کرنے کی آخری تاریخ: 11 جولائی 2016):

پوسٹ گریجویٹ پروگرام: اردو، انگریزی، ہندی، مطالعات ترجمہ، عربی و فارسی، مطالعات نسوان، نظم و نسق عامہ، سیاسیات، سماجی کام، اسلامیات، تاریخ، معاشیات اور سماجیات؛ ایم کام؛ اور ایم ایس سی [ریاضی]۔

گریجویٹ پروگرام: بی اے، بی کام، بی ایس سی [طبیعی علوم-ایم پی سی] / بی ایس سی [طبیعی علوم-ایم پی سی] اور بی ایس سی [حیاتی علوم-زیڈ پی سی]۔

برج کورسز: مدارس کے طلبہ کے لیے برائے داخلہ گریجویٹیشن و پالی ٹیکنک پروگرام [متعلقہ ریاستی مدرسہ بورڈ سے مسلمہ مدارس کے فارغ طلبہ کے لیے]

ڈپلوما و سرٹیفکیٹ پروگرام: اردو، ہندی، عربی، فارسی اور اسلامیات۔

درخواست فیس: -/500 روپے اور ایس سی / ایس ٹی / معذورین / خواتین کے لیے -/200 روپے۔

نوٹ: تمام درخواست گزاروں کے لیے لازمی ہے کہ انہوں نے دسویں / بارہویں میں اردو میڈیم سے تعلیم حاصل کی ہو یا بحیثیت زبان / مضمون اردو کامیاب ہوں۔ تمام پروگراموں کا ذریعہ تعلیم اردو ہوگا۔

ذیل میں بیان کی گئی تفصیلات اور طریقے کے مطابق درخواست فارم پر کریں:

- ایک سے زائد پروگرام میں درخواست دینے والے امیدوار ہر پروگرام کے لیے علاحدہ درخواست داخل کریں۔
- براہ کرم درخواست داخل کرنے سے قبل پروگرام کے لیے درکار معیار اہلیت کی جانچ کر لیں (پراسپیکٹس 2016-17 ملاحظہ کریں)
- جون 2016 میں مطلوبہ امتحان اہلیت کے فائنل امتحان کی تکمیل کرنے والے امیدوار بھی درخواست دے سکتے ہیں۔
- درخواست فیس کیسے ادا کریں: اپنی بنیادی معلومات آن لائن پُر کرنے کے بعد ایک چالان بن جائے گا، چالان کا پرنٹ آؤٹ حاصل کر کے متعینہ فیس (جو چالان پر درج ہوگی) اسٹیٹ بینک آف انڈیا کی کسی بھی شاخ میں ادا کر دیں۔ آن لائن درخواست فارم کی تکمیل کرتے ہوئے فیس کی تفصیلات اور جرنل نمبر کے ساتھ اس چالان کی اسکین شدہ کاپی کو سافٹ کاپی کے طور پر درخواست کے ساتھ منسلک کرنا ضروری ہے۔

- کیسے درخواست دیں : آن لائن درخواست فارم یکم مئی 2016 سے داخل کیے جاسکتے ہیں۔ آن لائن درخواست داخل کرنے سے قبل درخواست گزار کی تصویر اور والدین/سرپرست کی تصویر کی سافٹ کاپی (اسکین شدہ ڈیجیٹل تصویر)، اسکین شدہ دستخط، چالان کے ذریعے ادا کردہ فیس رسید کی اسکین کاپی اور ایس سی/ایس ٹی/اوبی سی اور معذوبین ہونے کی صورت میں متعلقہ اسناد کی اسکین شدہ نقول تیار رکھیں۔ داخلہ امتحان کی بنیاد پر داخلوں کے لیے آخری تاریخ – 31 مئی 2016 اور میرٹ کی بنیاد پر داخلوں کے لیے آخری تاریخ – 11 جولائی 2016۔
- فارم کی آن لائن خانہ پری : درخواست فارم کی آن لائن خانہ پری کے بعد کمپیوٹر پر آپ کا درخواست نمبر (یوزر نام) اور پاس ورڈ تیار ہو جائے گا۔ اس کے بعد کمپیوٹر پر ظاہر ہونے والی ہدایات کی پابندی کریں۔
- داخلہ امتحان کی بنیاد پر داخلے کے پروگراموں کے لیے ہال ٹکٹس : اہل درخواست گزاروں کے ہال ٹکٹس یونیورسٹی کے ویب سائٹ پر ڈاؤن لوڈ کے لیے دستیاب ہوں گے۔ ایس ایم ایس، ای میل کے ذریعے اور یونیورسٹی کے ویب سائٹ پر امیدواروں کو ان کے درخواست فارم کی وصولی کی اطلاع دے دی جائے گی۔ ہال ٹکٹس ڈاک سے ارسال نہیں کیا جائے گا۔ امیدوار کی ذمہ داری ہوگی کہ وہ اپنا ہال ٹکٹ ڈاؤن لوڈ کر لیں۔ یونیورسٹی سے ہدایات اور اطلاعات کی وصولی کے لیے براہ کر اپنا درست فون نمبر اور ای میل درج کریں۔ صرف ان ہی امیدواروں کے ہال ٹکٹ جاری کیے جائیں گے جن کے درخواست فارم متعینہ فیس اور دیگر لازمی تفصیلات کے ساتھ وصول ہوئے۔ تصدیق اور تلبیس شخصی کے امکان کو ختم کرنے کے لیے تمام امیدوار ہال ٹکٹس کے ساتھ بطور ثبوت اپنا ایک مستند تصویری شناختی کارڈ لائیں۔
- داخلہ امتحان کے امتحانی مراکز : امیدواروں کو ہال ٹکٹ پر درج امتحانی مرکز کے سوا کسی اور امتحانی مرکز پر داخلہ امتحان لکھنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ ایک بار مرکز کا انتخاب کرنے کے بعد اس میں تبدیلی کی کسی درخواست پر غور نہیں کیا جائے گا۔
- یونیورسٹی کو کسی بھی امتحانی مرکز کی منسوخی/تبدیلی کا اختیار ہوگا جس کا فیصلہ اس مرکز پر امیدواروں کی تعداد کی بنیاد پر کیا جائے گا۔ مرکز کی منسوخی کی صورت میں طلبہ کو اپنے خرچ پر یونیورسٹی کے متعین کردہ امتحانی مرکز پر حاضر ہونا ہوگا۔
- یہ واضح رہے کہ کسی پروگرام میں داخلے کی اہلیتوں کی تصدیق یا ان کی تکمیل کے بغیر بھی تمام درخواست گزاروں کو ہال ٹکٹ جاری کیے جاسکتے ہیں۔ لیکن ان سب کی حتمی جانچ اور تصدیق کونسلنگ و داخلے کے موقع پر کی جائے گی۔ اسی لیے درخواست گزاروں کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ پراسپیکٹس کا بہ غور مطالعہ کریں اور درخواست فال داخل کرنے سے قبل اپنی اہلیت کی پوری جانچ کر لیں۔ اس تنبیہ کے باوجود اگر امیدوار کم سے کم اہلیتی معیار کی تکمیل کے بغیر درخواست فارم پر کردیں اور داخلہ امتحان دیں تو وہ اپنی ذمہ داری پر ایسا کر سکتے ہیں۔ کسی بھی مرحلے پر اس بات کا پتہ چلے کہ کوئی امیدوار کم سے کم اہلیت کے معیار کی تکمیل نہیں کر رہا ہے تو داخلے کے لیے اس کی امیدواری پر غور نہیں کیا جائے گا اور اگر داخلہ ہو جائے تو اسے منسوخ کر دیا جائے گا اور ادا شدہ فیس ضبط کر لی جائے گی۔ یونیورسٹی ایسے امیدواروں کے خلاف قانونی کارروائی بھی کر سکتی ہے۔

میرٹ کی بنیاد پر داخلے کے پروگرام : منتخب امیدواروں/انتظاری امیدواروں کی میرٹ فہرست یونیورسٹی ویب سائٹ پر جاری کردی جائے گی اور طے شدہ نظام الاوقات (پراسپیکٹس 2016-17 ملاحظہ کریں) کے مطابق صرف ایس ایم ایس اور ای میل کے ذریعے مطلع کیا جائے گا۔

میں نے مذکورہ بالا ہدایات پڑھ لی ہیں اور پراسپیکٹس 2016-17 میں درج کورسز کے اہلیت معیار کو سمجھ لیا ہے۔

قبولیت کا بیان

1. 'آن لائن درخواست' پر کلک کرنے سے قبل تمام لنکس میں دی گئی تمام معلومات غور سے پڑھ لیں۔
2. جھوٹے لاگ ان نہ بنائیں کیوں کہ رجسٹریشن کے لیے موبائیل فون نمبر ضروری ہے۔
3. اگر آپ کے پاس کوئی موبائیل نمبر نہیں ہے تو آپ اپنے کسی قریبی رشتہ دار کا موبائیل نمبر دے سکتے ہیں (ان کی اجازت سے)
4. آپ کو مستقبل کی ضرورت کے لیے ایس ایم ایس اور ای میل کے ذریعے لاگ ان آئی ڈی (یوزر نام) اور پاس ورڈ بھیجا جائے گا۔
5. درخواست یونیورسٹی کی طے شدہ تواریخ کے اندر ہی داخل کرنا ضروری ہے۔ کسی کورس کی طے شدہ آخری تاریخ گزر جانے کے بعد اس کے لیے 'آن لائن درخواست' کا لنک کام نہیں کرے گا۔
6. آن لائن درخواست دینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کورس میں آپ کا داخلہ ہو گیا ہے۔

7. ایک بار امتحانی مرکز کے انتخاب کے بعد امیدوار کو اس میں تبدیلی کا حق نہیں ہوگا یا سلسلے میں کسی بھی درخواست پر غور نہیں کیا جائے گا۔
8. یونیورسٹی کو کسی بھی امتحانی مرکز کی منسوخی/تبدیلی کا اختیار ہوگا جس کا فیصلہ اس مرکز پر امیدواروں کی تعداد کی بنیاد پر کیا جائے گا۔ مرکز کی منسوخی کی صورت میں طلبہ کو اپنے خرچ پر یونیورسٹی کے متعین کردہ امتحانی مرکز پر حاضر ہونا ہوگا۔
9. 'آن لائن درخواست' لنک پر کلک کر کے آپ اس بات کو تسلیم کر رہے ہیں کہ آپ نے تمام ہدایات غور سے پڑھ اور سمجھ لی ہیں۔

میں نے پورا پراسپیکٹس غور سے پڑھ لیا ہے اور داخلے کے لیے یونیورسٹی کی تمام شرائط اور ضوابط کو قبول کرتا ہوں۔